

متعلق: مڈل اینرس ڈیولپمنٹ انسٹرومنٹ (MDI) (Middle Years Development Instrument)

عزیز خاندانوں،

ہیملٹن-وینٹ ورتھ ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ (HWDSB) (Hamilton-Wentworth District School Board) میں، ہم رکاوٹوں کی نشاندہی کرنے اور انہیں دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں، تاکہ تمام طلباء معاون، جامع اور احترام والے ماحول میں سیکھ سکیں۔ ہم طلباء کی فلاح و بہبود کی بھی حمایت کرتے ہیں، ایسے پروگراموں، معاونت اور خدمات کے ذریعے، جو صحت مند نشوونما کو فروغ دیتے ہیں اور کووڈ-19 عالمی وباء سے شفا یابی دیتے ہیں۔

نومبر میں، گریڈز 4 سے 12 تک کے طلباء مڈل اینرز ڈیولپمنٹ انسٹرومنٹ (MDI) کو مکمل کریں گے۔ گریڈز 4 سے 8 کے طلباء نے 2018 میں یہ سروے مکمل کیا اور ابتدائی اور ثانوی دونوں میں کچھ طلباء نے اس گزشتہ موسم بہار میں ایم ڈی آئی (MDI) کا مختصر ورژن مکمل کیا۔ نومبر میں، طلباء اسکول کے وقت کے دوران اسکول کے عملے کی نگرانی میں یہ آن لائن سروے مکمل کریں گے۔ آپ کے بچے کے جوابات نجی، خفیہ ہوں گے اور ان کی شناخت نام سے نہیں کی جائے گی۔

اس تحقیقی مطالعے کا مقصد کیا ہے؟

ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی (HWDSB) درمیانی سالوں میں بچوں کی نشوونما کے ان پہلوؤں کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتا ہے جو بہبود، صحت اور اسکول کی کامیابی کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ سروے طلباء سے اسکول اور کمیونٹی میں ان کے خیالات، احساسات اور تجربات کے بارے میں پوچھے گا۔ ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی (HWDSB) تحقیقی مطالعہ کے نتائج کو ایسے پروگراموں اور خدمات کے بارے میں اہم فیصلے کرنے کے لیے استعمال کرے گا، جو بچوں کے لیے فرق پیدا کرتے ہیں۔

سروے طلباء سے مندرجہ ذیل کے بارے میں سوالات پوچھتا ہے:

- 1 سماجی اور جذباتی نشوونما، جیسے خود اعتمادی، رجائیت، خوشی اور ہمدردی؛
- 2 اسکول، خاندان، دوستوں، اور کمیونٹیز سے جڑے ہونے کے احساسات؛
- 3 اسکول کے تجربات؛
- 4 جسمانی صحت اور تندرستی؛ اور
- 5 اسکول کے اوقات کے بعد وقت کا استعمال، نیز اسکول کے بعد کے وقت (آفٹر آرز) کے لیے بچوں کی خواہشات۔

میرے بچے کی رازداری کیسے محفوظ ہے؟

اس تحقیقی مطالعہ میں آپ کے بچے کی شناخت نام سے نہیں کی جائے گی۔ آپ کے بچے کے جوابات آپ کو یا کسی اسکول یا اسکول بورڈ کے عملے کو دستیاب نہیں ہوں گے۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ہے کہ ہر بچے کے جوابات نجی اور خفیہ رہیں۔ تحقیقی مطالعہ سے لی ہوئی کوئی بھی معلومات آپ کے بچے کے اسکول کے ریکارڈ میں شامل نہیں کی جاتی ہیں۔

اگر ایم ڈی آئی (MDI) معلومات کو تحقیقی اشاعتوں یا عوامی دستاویزات میں استعمال کیا جاتا ہے، تو کسی بھی طرح سے آپ کے بچے اور آپ کے بچے کے اسکول کی شناخت نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی بھی وقت آپ کا بچہ سروے میں حصہ نہیں لینا چاہتا ہے، تو اس کا استاد ایک متبادل اسکول کی سرگرمی فراہم کرے گا۔

ایم ڈی آئی (MDI) پر ذاتی معلومات میونسپل فریڈم آف انفارمیشن اینڈ پروٹیکشن آف پرائیویسی ایکٹ (MFIPPA) کے سیکشن 28(2) کی تعمیل میں جمع کی جاتی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ قانونی طور پر مجاز سرگرمیوں میں مصروف تنظیمیں، جب ضروری ہو تو، افراد سے ذاتی معلومات اکٹھی کر سکتی ہیں۔ ایم ڈی آئی (MDI) وزارت تعلیم (منسٹری آف ایجوکیشن) کے اسکول بورڈز کے طلباء کے اسکول کے ماحول (کلائمیٹ) کے بارے میں ہر 2 سال بعد سروے کرنے کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔

اسکول اور کمیونٹی کو کیسے فائدہ ہوگا؟

ایم ڈی آئی (MDI) تحقیقی مطالعہ اساتذہ، پروگرام کے منصوبہ سازوں اور کمیونٹی کے اراکین کو بچوں کی اپنی آوازوں کے ذریعے بچوں کی زندگیوں کے بارے میں جاننے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کا اسکول اور کمیونٹی نتائج کو بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ تحقیقی مطالعہ مقامی بچوں اور خاندانوں کو بہت سے مثبت فوائد فراہم کرتا ہے۔ ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی (HWDSB) سٹی آف ہیملٹن سمیت شراکت داروں کے ساتھ کام کرے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں طلباء کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ہم سروے سے شناخت شدہ ڈیٹا کو سٹی آف ہیملٹن کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے اس کی پروگرامنگ اور خدمات کو مطلع اور بہتر بنایا جا سکے۔

میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟

براہ کرم ایم ڈی آئی (MDI) کے بارے میں مزید جانیں، جو کینیڈا کے دیگر دائرہ اختیار میں استعمال ہوتا ہے، آن لائن پر www.earlylearning.ubc.ca/mdl پر۔

آپ ہماری ویب سائٹ <https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/mdl/> پر مڈل ایئرز ڈیولپمنٹ سروے (Middle Years Development survey) کے بارے میں معلومات اور وسائل بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بچے کی شرکت کے بارے میں کوئی سوالات یا خدشات ہیں، تو براہ کرم research@hwdsb.on.ca پر 905-527-5092 پر ریسرچ اینڈ اینالیٹکس ڈیپارٹمنٹ (Research and Analytics Department) سے رابطہ کریں۔

مخلصانہ،

(Hamilton-Wentworth District School Board)

تحقیق اور تجزیات کا شعبہ (Research and Analytics Department)